



اگر انگلیسی را خوانده نمی توانید، این اطلاعیه به لسان های دیگر در وب سایت ذیل ما تحت عنوان "Nauru Class Action" موجود است. همچنین می توانید یک کاپی این اطلاعیه را به لسان خودتان با فرستادن ایمیل برای Phi Finney McDonald به آدرس [GMNauru@pfm.law](mailto:GMNauru@pfm.law) یا به آدرس پستی Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000 بدست آورید.

ئەگەر نیهتومنین وه زوان ئنگلیسی بخومنین، ئی ئاگاداریه له مألپەر خوار له بهش "نقدام و مکۆمهئ نائۆرۆ" ("Nauru Class Action") وه زوانهیل ترهک دانریاس: [/phifinneycdonald.com/projects/](http://phifinneycdonald.com/projects/). ئرای داواکردن دهقیگ لهی ئاگاداریه وه زوان خودمان، ئیمهیلینگ بیهنه فی فینی مهکدونالد (Phi Finney McDonald) وه ناودیشان خواروه: [GMNauru@pfm.law](mailto:GMNauru@pfm.law) یا نامهیلگ ئرای ئی ئادرسه کل بکهن: Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000.

اگر خواندن انگلیسی بلد نیستید، این اطلاعیه با نام "دادخواهی دسته جمعی نارو" ("Nauru Class Action") به زبانهای دیگر در تارنمای زیر موجود است: [phifinneycdonald.com/projects/](http://phifinneycdonald.com/projects/). همچنین می توانید با ایمیل زدن به فای فینی مک دونالد (Phi Finney McDonald) به آدرس [GMNauru@pfm.law](mailto:GMNauru@pfm.law) یا تماس از راه پست به آدرس Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000 نسبت به دریافت یک نسخه از این اطلاعیه به زبان خودتان اقدام کنید.

Si vous ne lisez pas l'anglais, cet avis est disponible dans d'autres langues sur le site web suivant sous la rubrique « Nauru Recours Collectif » ("Nauru Class Action"): [phifinneycdonald.com/projects/](http://phifinneycdonald.com/projects/). Vous pouvez également demander une copie de l'avis dans votre langue en envoyant un courriel à Phi Finney McDonald à [GMNauru@pfm.law](mailto:GMNauru@pfm.law) ou par courrier à Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000.

यदि आप अंग्रेज़ी पढ़ पाते हैं, तो यह नोटिस इस वेबसाइट [phifinneycdonald.com/projects/](http://phifinneycdonald.com/projects/) पर "Nauru Class Action": के अधीन अन्य भाषाओं में उपलब्ध है। आप Phi Finney McDonald को [GMNauru@pfm.law](mailto:GMNauru@pfm.law) पर ई-मेल करके या Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000 पते पर डाक से पत्र भेजकर भी अपनी भाषा में नोटिस की प्रति दिए जाने का निवेदन कर सकते/सकती हैं।

Jika Anda tidak dapat membaca dalam bahasa Inggris, Pemberitahuan ini tersedia dalam bahasa-bahasa lain di situs web berikut ini di bawah judul "Nauru Class Action": [phifinneycdonald.com/projects/](http://phifinneycdonald.com/projects/). Anda juga dapat meminta salinan Pemberitahuan ini dalam bahasa Anda dengan cara mengirim email ke Phi Finney McDonald di [GMNauru@pfm.law](mailto:GMNauru@pfm.law) atay dengan mengirim surat lewat pos di alamat Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000

Sekiranya anda tidak fasih dalam Bahasa Inggeris, Notis ini telah pun diterjemahkan dalam Bahasa asing di laman web dibawah tajuk “Nauru Class Action”:

phifinneymcdonald.com/projects/. Anda juga boleh meminta sesalinan Notis ini dalam Bahasa anda dengan menghantar email kepada Phi Finney McDonald di [GMNauru@pfm.law](mailto:GMNauru@pfm.law) atau melalui pos ke Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000

यदि तपाईं अंग्रेजी पढ्न सक्नु हुन्न भने phifinneymcdonald.com/projects/ वेबसाइटमा "नउरु क्लास एक्शन" (“Nauru Class Action”) अन्तर्गत यो सूचना अन्य भाषाहरूमा उपलब्ध छन्। तपाईंले फि फिनी म्याकडोनाल्ड (Phi Finney McDonald) लाई [GMNauru@pfm.law](mailto:GMNauru@pfm.law) मा ईमेल गरेर वा Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000 मा पत्राचार गरेर तपाईंको भाषामा यो सूचनाको एक प्रति अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ।

کي د نارو اکشن /phifinneymcdonald.com/projects/ ناسي انگلیسي نشی لوستي، دا خبرتیا په نورو ژبو پدی وپیپانه  
Phi Finney تر نامه لاندې شتون لري. ناسو کولي شي يوه کاپي یی پی فینی مکدونالد “Nauru Class Action” پلان  
McDonald استولو و غواړي او یا د پوست له لاری [GMNauru@pfm.law](mailto:GMNauru@pfm.law) ته په ایمیل  
Lane, Melbourne, Victoria 3000 غوښتنه وکړی.

Zedice tuñi Ingílic ót fori nozanilé,ei websaíth ót zaí yara notis yan oínno zuban ót faíba  
“Nauru Class Action”: phifinneymcdonald.com/projects/.Tuñi Notis ór kopí ekan ólla aros gori  
fariba tuáñar zuban ót Phi Finney McDonald or hasé email defeçai yore [GMNauru@pfm.law](mailto:GMNauru@pfm.law)  
ya fúus gori fariba thikana yan ót Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000.

ඔබට ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියවීමට නොහැකි නම්, phifinneymcdonald.com/projects/ වෙබ් අඩවියේ “නවුරු  
සාමූහික ක්‍රියාමාර්ගය” (“Nauru Class Action”) (යටතේ මෙම දැනුම්දීම ඔබට වෙනත් භාෂාවකින් ලබාගත  
හැකිය. මෙම දැනුම්දීමේ පිටපතක් ඔබගේ භාෂාවෙන් ලබා දෙන ලෙස [GMNauru@pfm.law](mailto:GMNauru@pfm.law) වෙත යොමු  
කළ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපියක් මගින් හෝ Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000  
ලිපිනය වෙත තැපැල් මගින් පි ඔබේ මැකඩොනල්ඩ් )Phi Finney McDonald( ආයතනයෙන් ඉල්ලීමක්  
කිරීමට ද ඔබට පුළුවන.

Haddii aadan akhriyi karin Ingiriis, ogeysiisnaan waxaa laga helli karaa luqada kale  
websaytka soo socda “Nauru Class Action”. phifinneymcdonald.com/projects/. Waxaad  
kaloo codsan kartaa koobiga ogeysiiska isaga oo ku qoran afkaaga adigoo email u diraya  
Phi Finney McDonald @ [GMNauru@pfm.law](mailto:GMNauru@pfm.law) ama adiga oo boostada ku diraya: Level 4, 325  
Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000.

நீங்கள் ஆங்கிலம் பேசாதவர் என்றால், [phifinneymcdonald.com/projects/](http://phifinneymcdonald.com/projects/) எனும் வலைத்தளப்பக்கத்தில் “நவரு ஒட்டுமொத்த வழக்கு” (“Nauru Class Action”) என்ற தலைப்பின் கீழ் இந்த ‘அறிவிப்பு’ பிணை நீங்கள் இதர மொழிகளில் பெறலாம். ‘ஃபி ஃபினி மெக்டானல்டு’ (Phi Finney McDonald)-விற்கு [GMNauru@pfm.law](mailto:GMNauru@pfm.law) எனும் முகவரி மூலம் மின்னஞ்சல் அனுப்பியும், Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000 எனும் முகவரியில் தபால் மூலமாகவும் உங்கள் மொழியில் உள்ள பிரதி ஒன்றை நீங்கள் வேண்டலாம்.

**Plaintiff M83A/2019 & Anor v Morrison & Ors (VID816/2019)**

مجھے یہ کیوں موصول ہوا ہے؟

1. آسٹریلیا کی فیڈرل کورٹ میں دو افراد نے ایک مقدمہ دائر کیا ہے جو آسٹریلیا میں امیگریشن کے ذمہ دار موجودہ اور سابقہ وزراء اور حکومتی اداروں کے سیکرٹریوں، یعنی رکن پارلیمنٹ عزت مآب اسکاٹ مورین، رکن پارلیمنٹ عزت مآب پیٹر ڈنٹن، رکن پارلیمنٹ عزت مآب ٹونی برک، مسٹر مارٹن باولز اور مسٹر مائیکل پیزولو کے خلاف دائر کیا گیا ہے۔ کیس میں الزام لگایا گیا ہے کہ ان انفرادی وزراء (جو اس وقت آسٹریلین حکومت کے بہت سینئر ارکان تھے) اور سیکرٹریوں (جو اس وقت آسٹریلین پبلک سروس کے بہت سینئر افسران تھے) میں سے ہر ایک نے سرکاری عہدیداران کی حیثیت سے غیرقانونی کردار ادا کیا تھا، اور اپنی اس حیثیت میں اس وقت انہوں نے اس بات کو نظرانداز کرنے کا فیصلہ کیا کہ آیا ان کے اقدامات غیرقانونی ہیں (جنہیں آسٹریلیا کے قانون میں "لا پرواہی" یا "reckless indifference" کے طور پر جانا جاتا ہے)۔ اسے "عوامی عہدے میں اختیارات کا غلط استعمال" یا "misfeasance in public office" کہا جاتا ہے۔
2. کامن ویلتھ آف آسٹریلیا (آسٹریلیا) بھی ایک فریق ہے۔ انفرادی وزراء اور سیکریٹریز، اور آسٹریلین حکومت مقدمے کا دفاع کر رہے ہیں۔
3. مقدمہ ایک "کلاس ایکشن" ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے ایک شخص یا اشخاص نے دیگر لوگوں کی جانب سے، جنہیں "گروپ کے ارکان" کہا جاتا ہے، دائر کیا ہے۔ گروپ کے جن ارکان کی جانب سے یہ کلاس ایکشن دائر کیا گیا ہے وہ ایسے افراد ہیں جنہیں 3 اگست 2013 کے بعد ریپبلک آف ناؤرو لے جایا گیا تھا۔
4. آپ کو یہ نوٹس اس لئے موصول ہو رہا ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ آپ کو 3 اگست 2013 کے بعد آسٹریلیا سے ناؤرو لے جایا گیا ہو، چنانچہ یہ ممکنہ طور پر آپ اس گروپ کے ایک رکن ہوسکتے ہیں۔
5. کلاس ایکشن میں شامل ہونے کی وجہ سے آپ کے ویزے کی حیثیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر آپ کے اپنے ویزے کی حیثیت کے بارے میں کوئی سوالات ہیں تو آپ کو ایک مائیگریشن ایجنٹ سے رابطہ کرنا چاہئے۔
6. کلاس ایکشن کا حصہ بننے کے لئے آپ کو کوئی رقم ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو مقدمے کے اختتام پر ہرجانہ موصول ہونے کی صورت میں ہی کچھ رقم ادا کرنے کی ضرورت پڑے گی یا پھر اگر آپ کو اپنے ذاتی کلیم کو حتمی شکل دینے کے لئے ذاتی قانونی مشورے کی ضرورت ہوئی تو آپ کو کچھ رقم ادا کرنی پڑے گی۔ کلاس ایکشن سے متعلقہ جو بھی قانونی اخراجات آپ کو ادا کرنا پڑ سکتے ہیں وہ آپ کو ممکنہ طور پر ملنے والے ہرجانے کی رقم سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ دوسرے الفاظ میں، کلاس ایکشن میں آپ کو اپنی جیب سے کوئی قانونی اخراجات ادا نہیں کرنے پڑیں گے۔
7. اس مقدمے کو چلانے والے وکلاء (PFM) Phi Finney McDonald (PFM) ہیں۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ آیا آپ کلاس ایکشن گروپ کے رکن ہیں، تو آپ PFM سے بذریعہ ای میل [GMNauru@pfm.law](mailto:GMNauru@pfm.law) رابطہ کر سکتے ہیں یا اپنی پسند کے وکیل سے بات کر سکتے ہیں۔

## آسٹریلین قانونی نظام

8. آسٹریلیا کا قانونی نظام کسی بھی شخص (جسے درخواست گزار کہا جاتا ہے) کو کسی دوسرے شخص، کمپنی یا حکومت (جسے مدعا علیہ کہا جاتا ہے) کے خلاف مالی ہرجانے کا دعویٰ دائر کرنے کی اجازت دیتا ہے، اگر درخواست دہندہ کا خیال ہو کہ اسے مدعا علیہ کے طرز عمل کی وجہ سے چوٹ پہنچی ہے یا نقصان ہوا ہے اور جب اس دعوے کے ان دعووں کی مناسب بنیاد موجود ہو۔

9. آسٹریلیا میں تمام عدالتیں حکومت سے آزاد ہیں۔ عدالتوں کے پاس ان کے عمل کرنے کے واضح اصول ہیں۔ ان اصولوں میں ثبوت کی تیاری اور اس ثبوت پر قانونی ضابطوں کا اطلاق شامل ہے تاکہ قانون کے مطابق مقدمے کا فیصلہ کیا جا سکے۔

### کلاس ایکشن کس بارے میں ہے؟

10. کلاس ایکشن میں الزام لگایا گیا ہے کہ امیگریشن کے ذمہ دار ہر موجودہ اور سابقہ وزیر، اور امیگریشن کے ذمہ دار حکومتی اداروں کے ہر موجودہ اور سابقہ سیکرٹری نے بطور عوامی اہلکار قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ جن دو افراد نے مقدمہ دائر کیا ہے، انہیں کلاس ایکشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے یہ ثابت کرنا ہوگا:

(a) وزراء اور سیکرٹریوں میں سے ہر ایک نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے غیر قانونی اقدامات کئے؛ اور

(b) وزراء اور سیکرٹریوں نے اس بات کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا کہ آیا ان کے اقدامات غیر قانونی ہیں (جسے آسٹریلین قانون میں "لا پرواہی" یا "reckless indifference" کہا جاتا ہے)۔

11. کلاس ایکشن میں الزام لگایا گیا ہے ریجنل پروسیسنگ سنٹر ویزہ (RPC) لینے کے لئے یا اس میں توسیع کے لئے درخواستیں دینے کے وقت غیر قانونی اقدامات اٹھائے گئے تھے۔ ایسا چار (4) طریقوں سے کیا گیا تھا:

(a) آسٹریلیا کے قانون کے مطابق آسٹریلین افسران کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ گروپ کے ارکان کے RPC ویزے کے لئے یا اس میں توسیع کے لئے درخواست دیتے؛

(b) RPC ویزے کے لئے یا اس میں توسیع کے لئے درخواست دینے وقت آسٹریلین افسران کی ذمہ داری تھی کہ وہ گروپ کے ارکان کے لئے انصاف پر مبنی طریقہ کار اختیار کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔

(c) آسٹریلین افسران محض اسی صورت میں قانونی طور پر RPC ویزے کے لئے یا اس میں توسیع کے لئے درخواست دے سکتے تھے جب گروپ کے ارکان کے ساتھ انسانی حقوق کے معیاروں کے مطابق سلوک کیا جاتا، لیکن ایسا نہیں تھا۔

(d) گروپ کے وہ ارکان جو کہ بچے تھے، ان کے لئے آسٹریلین افسران محض اسی صورت میں قانونی طور پر RPC ویزے کے لئے یا اس میں توسیع کے لئے درخواست دے سکتے تھے جب گروپ کے ارکان کے ساتھ بچوں سے متعلقہ انسانی حقوق کے معیاروں کے مطابق سلوک کیا جاتا، لیکن ایسا نہیں تھا۔

12. کلاس ایکشن میں الزام لگایا گیا ہے کہ جن وزراء اور سیکرٹریوں کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا ہے، وہ RPC ویزوں کے لئے یا ان میں توسیع کے لئے درخواست دینے والے آسٹریلین افسران کے اقدامات کے ذمہ دار ہیں کیونکہ وزراء اور سیکرٹریوں نے اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران افسران کے غیرقانونی طرز عمل کو روکنے کے لئے اپنے اختیارات کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا۔

13. کلاس ایکشن میں الزام لگایا گیا ہے کہ جن وزراء اور سیکرٹریوں کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا ہے، بشمول کامن ویلتھ جس کی کہ انہوں نے نمائندگی کی، انہیں گروپ کے ارکان کو ہرجانہ ادا کرنا چاہئے کیونکہ گروپ کے ارکان کو غیر قانونی طور پر ناؤرو لے جایا گیا تھا اور ناؤرو لے جانے کے نتیجے میں انہیں نقصان پہنچا۔

14. مدعا علیہان کے خلاف تفصیلی الزامات درخواست گزار کے مزید ترمیم شدہ کلیم کے بیان ( Further Amended Statement of Claim) میں بتائے گئے ہیں۔ مزید ترمیم شدہ کلیم کے بیان اور مدعا علیہان کے دفاع کی نقل PFM کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے: [/phiffinmeymcdonald.com/projects](http://phiffinmeymcdonald.com/projects)

15. کلاس ایکشن میں وزراء اور سیکرٹریوں کے غیرقانونی اقدامات سے ہونے والے نقصانات کی تلافی کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ 3 اگست 2013 کے بعد ناؤرو لے جانے والے افراد کی ذاتی چوٹوں، آمدنی میں نقصان اور غلط قید کا ازالہ کیا جاسکے۔

### میں کلاس ایکشن کا حصہ رہنا چاہتا ہوں - مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟

16. اگر آپ کلاس ایکشن کا حصہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس وقت کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس وقت تک کلاس ایکشن کا حصہ رہتے ہیں جب تک کہ آپ آسٹریلیا کی فیڈرل کورٹ کو یہ بتا نہیں دیتے کہ آپ اس کلاس ایکشن کا حصہ نہیں رہنا چاہتے۔ ایسا ہونے کی صورت میں اگلے حصے میں آپ کو بتایا گیا ہے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے۔

17. گروپ کے ارکان کلاس ایکشن کے فیصلے کے "پابند" ہوتے ہیں، ماسوائے جب انہوں نے مقدمے سے علیحدگی اختیار کر لی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ کلاس ایکشن جیتنے، ہارنے یا تصفیہ ہونے کی صورت میں آپ نتیجے کے پابند ہوں گے۔

(a) اگر کلاس ایکشن میں کامیابی ملتی ہے تو آپ کو فیصلے میں ملنے والے ایوارڈ یا تصفیے کی رقم میں سے حصہ مل سکتا ہے۔

(b) اگر کلاس ایکشن میں کامیابی نہیں ملتی یا ہماری امید سے کم ملتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی رقم نہ ملے یا بہت تھوڑی رقم ملے اور اس صورت میں آپ انفرادی وزراء یا سیکرٹریوں کے خلاف اوپر بیان

کئے غیرقانونی طرز عمل کے سلسلے میں کوئی مقدمہ دائر نہیں کر سکیں گے۔ اور، آپ کو کوئی رقم بھی ادا کرنی ہو گی۔

18. جب گروپ کے تمام ارکان کے مشترکہ مسائل پر فیصلہ کیا جائے گا تو آپ کو کلاس ایکشن کا حصہ رہنے کے لئے کوئی رقم ادا نہیں کرنی ہوگی۔ آپ کو صرف اس صورت میں کچھ رقم ادا کرنے کی ضرورت پیش آئے گی جب مقدمے کے آخر میں آپ کو کوئی ہرجانہ وصول ہوا یا آپ کو اپنے ذاتی کلیم کو حتمی شکل دینے کے لئے ذاتی قانونی تجویز کی ضرورت پڑی۔ کلاس ایکشن پر آپ کے آنے والے ممکنہ اخراجات آپ کو ملنے والے ممکنہ ہرجانے سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ دوسرے الفاظ میں، آپ کو کلاس ایکشن میں اپنی جیب میں سے کوئی اخراجات ادا نہیں کرنے پڑیں گے۔

19. اگر آپ چاہیں تو آپ PFM سے بذریعہ ای میل [GMNauru@pfm.law](mailto:GMNauru@pfm.law) رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ مستقبل میں آپ کے ترجیحی پتے یا ای میل پر تازہ ترین معلومات بھیجی جا سکیں۔

### میں اس کلاس ایکشن کا حصہ نہیں رہنا چاہتا - مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟

20. اگر آپ کلاس ایکشن کا حصہ نہیں رہنا چاہتے تو آپ کو فیڈرل کورٹ کو بتانا ہوگا۔ اسے "علیحدہ ہونا" یا "opting out" کہا جاتا ہے۔ اگر آپ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اس نوٹس کے آخر میں دیا گیا فارم مکمل کر کے جمعہ 31 جولائی 2020 کو شام 4 بجے (آسٹریلین ایسٹر اسٹینڈرڈ ٹائم) تک اس پتے پر بذریعہ ڈاک یا ای میل بھیجنا ہوگا:

The Registrar  
Federal Court of Australia  
Victorian District Registry  
305 William Street  
Melbourne VIC 3000

یا

[vicreg@fedcourt.gov.au](mailto:vicreg@fedcourt.gov.au)

21. اگر آپ علیحدگی اختیار کرتے ہیں تو آپ کو کلاس ایکشن سے کوئی ہرجانہ نہیں ملے گا۔

22. گروپ کا ہر وہ رکن جو کلاس ایکشن سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتا ہے اسے الگ سے ایک opt out فارم مکمل کرنا ہوگا۔ آپ بطور خاندان صرف ایک opt out فارم مکمل نہیں کر سکتے (بلکہ ہر ایک کو الگ الگ فارم مکمل کرنے ہوں گے)۔

آپ متعلقہ دستاویزات کی نقول کہاں سے حاصل کرسکتے ہیں؟

23. متعلقہ دستاویزات، بشمول درخواست، کلیم کا بیان اور ایک یا زائد دفاعی دستاویزات درج ذیل طریقوں سے حاصل کی جاسکتی ہیں:

(a) PFM کے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنا: [phifinmcdonald.com/projects/](http://phifinmcdonald.com/projects/)

(b) فیڈرل کورٹ کے ویب سائٹ پر ان کا جائزہ لینا: [www.fedcourt.gov.au](http://www.fedcourt.gov.au)

مجھے مزید معلومات کہاں سے مل سکتی ہیں؟

24. اگر آپ کو مزید معلومات کی ضرورت ہے یا آپ کو یہ نوٹس کسی اور زبان میں ترجمہ کروانے کی ضرورت ہے تو آپ:

(a) <http://phifinmcdonald.com/projects/> ویب سائٹ پر جاسکتے ہیں؛ یا

(b) PFM کو بذریعہ ای میل [GMNauru@pfm.law](mailto:GMNauru@pfm.law) پر رابطہ کرسکتے ہیں۔

یہ فارم صرف اس صورت میں استعمال کریں اگر آپ کلاس ایکشن کا حصہ نہیں رہنا چاہتے

Form 21  
Rule 9.34

**علیحدہ ہونے کا نوٹس (OPT OUT NOTICE)**

No. VID816 of 2019

Federal Court of Australia  
District Registry: Victoria  
Division: General

**Plaintiff M83A/2019**

First Applicant

**Plaintiff M83B/2019 (by his litigation representative, Plaintiff M83C/2019)**

Second Applicant

**Scott Morrison & Ors (in accordance with the attached schedule)**

Respondents

بخدمت جناب:

The Registrar  
Federal Court of Australia  
Victoria District Registry  
305 William Street  
Melbourne VIC 3000

یا

vicreg@fedcourt.gov.au

[آپ کا پورا نام]، اس نمائندہ مقدمے کے گروپ کا ایک رکن، فیڈرل کورٹ آف آسٹریلیا ایکٹ 1976 کے سیکشن 33J کے تحت نوٹس دینا ہوں کہ [آپ کا پورا نام] نمائندہ مقدمے سے علیحدگی اختیار کرتا ہے۔

بتاریخ:

آپ کے دستخط:  
آپ کا پورا نام:  
تاریخ پیدائش:  
ای میل ایڈریس:  
فون نمبر:

سرکل ون: گروپ کا رکن یا گروپ کے رکن کا قانونی نگران